


Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 2nd Day	Exercise 4.5 Q # (1,2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw line of symmetry and order of rotational symmetry in each of the following: (3x2=6)

درج ذیل میں ہر ایک کا خط تشاکل کھینچیں اور گردش کی تشاکل کا مرتبہ/درجہ بھی بتائیں۔



Q.2. Find the point of rotation of regular hexagon and decagon. Also find the angle of rotation. (1x4=4)


ایک منظم مسدس اور دہ پھلو/ڈیکاگون کا نقطہ گردش معلوم کریں۔ گردش کی زاویہ کی مقدار بھی معلوم کریں۔

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 2nd Day	Exercise 4.5 Q # (1,2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw line of symmetry and order of rotational symmetry in each of the following: (3x2=6)

درج ذیل میں ہر ایک کا خط تشاکل کھینچیں اور گردش کی تشاکل کا مرتبہ/درجہ بھی بتائیں۔



Q.2. Find the point of rotation of regular hexagon and decagon. Also find the angle of rotation. (1x4=4)


ایک منظم مسدس اور دہ پھلو/ڈیکاگون کا نقطہ گردش معلوم کریں۔ گردش کی زاویہ کی مقدار بھی معلوم کریں۔

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 2nd Day	Exercise 4.5 Q # (1,2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw line of symmetry and order of rotational symmetry in each of the following: (3x2=6)

درج ذیل میں ہر ایک کا خط تشاکل کھینچیں اور گردش کی تشاکل کا مرتبہ/درجہ بھی بتائیں۔



Q.2. Find the point of rotation of regular hexagon and decagon. Also find the angle of rotation. (1x4=4)


ایک منظم مسدس اور دہ پھلو/ڈیکاگون کا نقطہ گردش معلوم کریں۔ گردش کی زاویہ کی مقدار بھی معلوم کریں۔

Time: 10 Minutes	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 10
5th Month, 3rd Week, 2nd Day	Exercise 4.5 Q # (1,2)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. Draw line of symmetry and order of rotational symmetry in each of the following: (3x2=6)

درج ذیل میں ہر ایک کا خط تشاکل کھینچیں اور گردش کی تشاکل کا مرتبہ/درجہ بھی بتائیں۔



Q.2. Find the point of rotation of regular hexagon and decagon. Also find the angle of rotation. (1x4=4)

ایک منظم مسدس اور دہ پھلو/ڈیکاگون کا نقطہ گردش معلوم کریں۔ گردش کی زاویہ کی مقدار بھی معلوم کریں۔